

ذَلِكَ

‘eso o ‘ese’

Corresponde a otro de los sustantivos para señalar o apuntar – الاسم الإشارة - en este caso - se utiliza para señalar algo que está lejano, masculino, tercera persona singular.

Picture	Answer	Question
	<p>ذَلِكَ نَجْمٌ. Dhálika najmun Eso es una estrella</p>	<p>ما ذَلِكَ؟ Ma dhálika ¿Qué es eso?</p>
 	<p>هَذَا مَسْجِدٌ وَذَلِكَ بَيْتٌ. Hádha masyidun wa dhálika baitun Esto es una mezquita y eso es una casa</p>	<p>ما هَذَا وَمَا ذَلِكَ؟ Ma hádha wa ma dhálika? ¿Qué es esto y que es eso?</p>
	<p>هَذَا حِصَانٌ وَذَلِكَ حَمَارٌ. Hádha hisánun wa dhálika himarun. Esto es un caballo y eso es un asno</p>	<p>ما هَذَا وَمَا ذَلِكَ؟ Ma hádha wa ma dhálika? ¿Qué es esto y que es eso?</p>
	<p>لَا، ذَلِكَ قِطٌّ. Laa, dhálika qittun. No, eso es un gato</p>	<p>أَذَلِكَ كَلْبٌ؟ Adhálika kalbun ¿es eso un perro?</p>
	<p>ذَلِكَ سَرِيرٌ. Dhálika sarirun. Eso es una cama</p>	<p>ما ذَلِكَ؟ ¿ma dhálika? ¿Qué es eso?</p>

	هَذَا مُدَرِّسٌ وَذَلِكَ إِمَامٌ.	مَنْ هَذَا وَمَنْ ذَلِكَ؟
	Hadha mudarrisun wa dhalika imamun Este es un profesor y este es un imam	Man hâdha wa man dhâlika? ¿Quién es este y quien es ese?
	ذَلِكَ حَجَرٌ. Dhâlika hijr. Eso es una piedra	مَا ذَلِكَ؟ Ma dhâlika? ¿Qué es eso?
	هَذَا سُكَّرٌ وَذَلِكَ لَبَنٌ. Hâdha sukkarun wa dhâlika labanun Esto es azúcar y eso es leche.	مَا هَذَا وَمَا ذَلِكَ؟ Ma hâdha wama dhâlika? ¿Qué es esto y que es eso?

اقرأ واكتُب:

مَنْ ذَلِكَ؟ ذَلِكَ إِمَامٌ

هَذَا سُكَّرٌ وَذَلِكَ لَبَنٌ

مَا هَذَا؟ هَذَا حَجَرٌ

أَذْلِكَ قِطْ؟ لَا، ذَلِكَ كُلُّ

مراجعة المفردات

Revisión del vocabulario –

significado	árabe
Leche	لَبَنٌ
azúcar	سُكَّرٌ
Roca	حَجَرٌ
Imam (líder musulmán de la oración)	إِمَامٌ